

## English

Do not leave the child unattended.

## Deutsch

Kind nicht unbeaufsichtigt lassen.

## Français

Mise en garde. Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.

## Nederlands

Waarschuwing! Laat het kind nooit zonder toezicht op de commode liggen.

## Dansk

Advarsel! Gå aldrig fra barnet uden at det er under opsyn.

## Íslenska

Skiljið barnið aldrei eftir eftirlitslaust.

## Norsk

Advarsel! Forlat aldri barnet uten tilsyn.

## Suomi

Varoitus! Älä koskaan jätä lasta hoitopöydälle yksin.

## Svenska

Varning! Lämna aldrig barnet utan tillsyn.

## Česky

Nenechávejte své dítě bez dozoru.

## Español

¡Advertencia! Nunca dejar al bebé en el cambiador sin vigilar.

## Italiano

Avvertenza! Non lasciare mai il bambino incustodito.

## Magyar

Ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül.

## Polski

Nie zostawiaj dziecka bez opieki.

## Eesti

Ärge jätke last järelvalveta.

## Latviešu

Neatāijiet bērnu bez uzraudzības.

## Lietuvių

Nepalikite vaiko be priežiūros.

## Portugues

Não deixe a criança sem vigilância.

## Româna

Nu lăsa copilul nesupravegheat.

## Slovensky

Dieta nenechávajte bez dozoru.

## Български

Не оставяйте децата без надзор.

## Hrvatski

Ne ostavljajte dijete bez nadzora.

## Ελληνικά

Μην αφήνετε το παιδί χωρίς παρακολούθηση.

## Русский

Не оставляйте ребёнка без присмотра.

## Українська

Не залишайте дитину без нагляду.

## Srpski

Ne ostavljaj dete bez nadzora.

## Slovenščina

Otroka ne puščaj brez nadzora.

## Türkçe

Çocuğu, tek başına bırakmayın.

## 中文

不要將孩子放在一旁，無人照看。

## 繁中

不可單獨留下孩子無人看顧。

## 한국어

절대 아이를 방치하지 마세요.

## 日本語

お子様のそばを離れないでください。

## Bahasa Indonesia

Jangan biarkan anak-anak tanpa pengawasan.

## Bahasa Malaysia

Jangan biarkan kanak-kanak tanpa seliaan.

## عربي

لاتترك الطفل دون مراقبة.

## ไทย

อย่าปล่อยเด็กนั่งอยู่ตามลำพัง

## Tiếng Việt

Tuyệt đối không để trẻ một mình mà không có sự giám sát.